



سوال

نماز کے بعد ہمیشہ مصافحہ کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز کے بعد مصافحہ کرنے کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ کیا یہ بدعت ہے یا سنت ابراہ کرم دلائل کے ساتھ بیان فرمائیے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

فرض نمازوں کے بعد ہمیشہ مصافحہ کرنے کی ہمیں کوئی اصل معلوم نہیں ہے لہذا یہ عمل بدعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

من عمل علیہ علیہ امرنا فورد

(صحیح مسلم کتاب الاقضیۃ باب نقض الاحکام الباطلہ۔۔۔ ح: 1718۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب رقم: 20)

”جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے“

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

من احدث فی امرنا یاہالیس منہ فورد

(صحیح بخاری کتاب الصلح باب اذا صطلحوا علی صلح جور فالصلح مردود: 2697) صحیح مسلم کتاب الاقضیۃ باب نقض الاحکام الباطلہ۔۔۔ ح: 1718)

”جس نے ہمارے اس امر (دین) میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے“

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 355

محدث فتویٰ